


# Quick-Start Card HD2618 - ENGLISH

- ! Before using the appliance for the first time, we advise you to let the appliance complete a few toasting cycles without slices of bread on the highest browning setting in a properly ventilated room. This will burn off any dust that may have accumulated on the heating elements and will prevent unpleasant smells when toasting bread.

- 1 Put bread in the toaster



- 2 Select a function


Regular toasting  
 Defrosting and toasting  
 One-side toasting  
(ideal for bagels and baguettes)

Reheating (preset time for an optimal result, + and - buttons cannot be used)  
 Heating up rolls and croissants  
(preset time for an optimal result, + and - buttons cannot be used)


- 3 Select a browning setting

High setting (for dark toast)  
 Low setting (for light toast)  
 Medium setting

- 4 Press the toasting lever down



- 5 Remove the bread when it pops up and enjoy your meal!



Black screen: if the appliance has not been used for 5 minutes, the appliance will go into sleep mode automatically. Press any button to reactivate the appliance.

Stop button: to stop the toasting process at any time.


Warming rack: push the warming rack lever down to unfold the warming rack.

**PHILIPS**

# Guide de démarrage rapide HD2618 - FRANÇAIS

! Lors de la première utilisation, faites fonctionner l'appareil plusieurs fois au réglage maximum sans introduire de tranches de pain, dans une pièce bien aérée, pour chauffer les éléments chauffants et brûler les particules de poussière qui se sont accumulées. Vous éviterez ainsi les odeurs désagréables pendant le fonctionnement de l'appareil.

- 1 Mettez le pain dans le grille-pain



- 2 Sélectionnez une fonction


Grillage normal  
 Décongélation et grillage  
 Grillage partiel  
(idéal pour bagels et baguettes)

Réchauffage (durée préréglée pour un résultat optimal, les boutons + et - sont inactifs)  
 Faire réchauffer des petits pains ou croissants (durée préréglée pour un résultat optimal, les boutons + et - sont inactifs)


- 3 Sélectionnez le réglage de brunissage

Réglage supérieur (pain bien grillé)  
 Réglage inférieur (pain légèrement grillé)  
 Réglage moyen

- 4 Abaissez la manette



- 5 Retirez le pain lorsque la manette remonte et bon appétit!



Affichage noir: si l'appareil reste inutilisé pendant 5 minutes, le mode veille sera automatiquement activé.  
Appuyez sur tout bouton pour réactiver l'appareil.



Bouton stop: pour suspendre le brunissage à tout moment.




Accessoire de réchauffage: abaissez la manette de l'accessoire de réchauffage pour le déplier.

# Snelstartkaart HD2618 - NEDERLANDS

- ! **Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, raden we u aan het apparaat in een goed geventileerde kamer enkele keren op de hoogste bruiningsstand te laten werken zonder dat er brood in zit. Hierdoor zal het stof dat zich eventueel op de verwarmingselementen verzameld heeft, weggebrand worden en wordt het ontstaan van onaangename geurtjes tijdens het roosteren voorkomen.**

- 1 Doe brood in de broodrooster**



- 2 Stel een functie in**


Normaal roosteren  
 Ontdooien en roosteren  
 Enkelzijdig roosteren  
(ideaal voor bagels en stokbrood)

Geroosterd brood opwarmen  
(vaste roostertijd voor optimaal resultaat, + en - knoppen niet bedienbaar)  
 Broodjes en croissants opwarmen (vaste roostertijd voor optimaal resultaat, + en - knoppen niet bedienbaar)


- 3 Stel een bruiningsstand in**

Hoge stand (voor donker geroosterd brood)  
 Lage stand (voor licht geroosterd brood)  
 Gemiddelde stand

- 4 Duw de liftknop naar beneden**



- 5 Verwijder het brood wanneer het omhoog springt.  
Eet smakelijk!**



→ Display zwart: wanneer de broodrooster gedurende 5 minuten niet gebruikt is, zal automatisch de slaapstand in werking treden.

U kunt de broodrooster weer activeren door op een willekeurige knop te drukken.


→ Stopknop: om het roosterproces op ieder gewenst moment te onderbreken.

→ Opwarmrek: duw de hendel voor het opwarmrek naar beneden om het opwarmrek uit te klappen.

# Kurzeinleitung HD2618 - DEUTSCH

- ! Vor dem ersten Gebrauch des Geräts empfiehlt es sich, den Toaster in einem gut belüfteten Raum mehrmals ohne Brot auf der höchsten Röststufe zu betreiben.
- Dadurch werden Staubpartikel verbrannt, die sich möglicherweise auf den Heizelementen angesammelt haben und einen unangenehmen Geruch beim Toasten verursachen können.

- 1 Legen Sie Brot in den Toaster



- MODE  
2 Wählen Sie eine Funktion


Normales Toasten  
  
Auftauen und Toasten  
  
Einseitiges Toasten  
(ideal für Bagels und Baguette)

Aufwärmen (die Zeit für ein optimales Ergebnis ist fest eingestellt; die + und - Tasten reagieren nicht)  
  
Brötchen und Croissants aufbacken  
(die Zeit für ein optimales Ergebnis ist fest eingestellt; die + und - Tasten reagieren nicht)


- 3 Wählen Sie eine Röststufe

Hohe Einstellung - für dunklen Toast  
  
Niedrige Einstellung - für hellen Toast  
  
Mittlere Einstellung

- 4 Drücken Sie den Schiebeschalter nach unten



- 5 Entnehmen Sie das Brot, wenn es nach oben springt, und genießen Sie es!



Standby-Schaltung: Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht benutzt wurde, schaltet es sich automatisch auf Standby. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät zu reaktivieren.


Stop-Taste: Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen.

Brötchenaufsatz: Drücken Sie den Hebel nach unten, um den Brötchenaufsatz auszuklappen.

# Tarjeta de inicio rápido HD2618 - ESPAÑOL

**! Antes de utilizar el aparato por primera vez, le recomendamos que deje que el aparato funcione unas cuantas veces sin pan en el interior, en la posición de tostado más alta, en una habitación bien ventilada. Esto quemará el polvo que se pueda haber acumulado en los elementos de calor y evitará que se desprendan olores desagradables al tostar el pan.**

- 1** Coloque el pan en el tostador.



- 2** Seleccione una función

	Tostado normal
	Descongelar y tostar
	Tostado por un solo lado (ideal para panecillos y baguettes)
	Recalentar (tiempo)


preprogramado para conseguir buenos resultados, no puede usar los botones + y -

Calentar bollos y croissants (tiempo preprogramado para conseguir buenos resultados, no puede usar los botones + y -)


- 3** Seleccione una posición de tostado

	Posición alta (para pan muy tostado)
	Posición baja (para pan poco tostado)
	Posición media

- 4** Baje la palanca de tostado



- 5** Saque el pan cuando salte y ¡disfrútelo!



Pantalla en negro: si no se utiliza el aparato durante 5 minutos, éste se pondrá en modo "en espera" automáticamente. Pulse cualquier botón para reactivar el aparato.


Botón de parada: para detener el proceso de tostado en cualquier momento.

Bandeja calientabollos: baje la palanca de la bandeja calientabollos para que ésta se despliegue.

# Quick-Start Card HD2618 - ITALIANO

- ! Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, vi consigliamo di effettuare alcuni cicli di tostatura completi, senza inserire le fette di pane, impostando il valore di doratura più alto e usando l'apparecchio in un locale ben ventilato. In questo modo verrà eliminata l'eventuale polvere che potrebbe essersi accumulata sulla serpentina, evitando la formazione di odori sgradevoli durante la tostatura.

- 1 Inserite il pane nel tostafette



- 2 Impostate una funzione


- Tostatura normale  
Scongelamento e tostatura  
 Tostatura su un solo lato (ideale per panini e baguette)

- Riscaldamento (impostate il tempo per un risultato ottimale, i pulsanti + e - non possono essere usati).  
 Riscaldamento panini e croissant (impostate il tempo per un risultato ottimale, i pulsanti + e - non possono essere usati).


- 3 Selezzionate un'impostazione di doratura

- Impostazione elevata (per pane più dorato)  
 Impostazione bassa (per pane meno dorato)  
 Impostazione media

- 4 Abbassate le leve di tostatura



- 5 Togliete il pane non appena salta fuori dall'apparecchio.  
Buon appetito!



➤ Schermo nero: se non viene usato per 5 minuti, l'apparecchio va automaticamente in modalità "sleep". Per riattivare l'apparecchio, premete un pulsante qualsiasi.



➤ Pulsante stop: per interrompere in qualsiasi momento il processo di tostatura.




➤ Griglietta: abbassate la leva della griglietta per aprirla

# Guia de Arranque Rápido HD2618 - PORTUGUÊS

! Antes de se servir da torradeira pela primeira vez, aconselha-se que efectue alguns ciclos de torragem completos, sem colocar pão, na regulação mais alta e num local devidamente ventilado. Deste modo, toda a poeira que possa ter-se acumulado nas resistências será queimada e, assim, evitar-se-ão cheiros desagradáveis quando for torrar o pão.

- Coloque o pão na torradeira




- Seleccione uma função

- Torragem normal
- Descongelação e torragem
- Torrar de um só lado (ideal para cacetinhos e baguetes)
- Reaquecimento (tempo pré-definido para óptimos resultados, os botões + e - não podem ser usados)
- Aquecimento de pãezinhos e croissants (tempo pré-definido para óptimos resultados, os botões + e - não podem ser usados)


- Selecção do grau de torragem

- Regulação alta (para torradas escuras)
- Regulação baixa (para torradas claras)
- Regulação média

- Puxar o manípulo do elevador da torradeira para baixo



- Retire o pão quando saltar e aprecie a sua torrada!



→ Ecrão preto: se a torradeira não for usada durante 5 minutos, entra automaticamente em modo de descanso. Prima qualquer botão para reactivar a torradeira.


→ Botão 'stop': para parar o processo em qualquer altura.

→ Rede de aquecimento: empurrar o manípulo para abrir a rede de aquecimento.

# Hurtigstarter kort HD2618 - NORSK

- Før du bruker apparatet for første gang, anbefaler vi at du lar apparatet fullføre noen ristesykluser uten brødkiver på høyeste bruningsinnstilling i et godt ventilert rom. Dette vil brenne evt. støv som kan ha akkumulert seg på varmeelementet og det man vil unngå lite hyggelig lukt når man rister brød.

- 1 Putt brødet i risteren



- 2 MODE  
2 Velg en funksjon


 Vanlig risting  
 Tining og risting  
 Rising på en side  
(ideelt for bagels og baguetter)

 Gjenoppvarming (forhåndsinnstill tiden for optimalt resultat, + and- knapp kan ikke brukes)  
 Oppvarming av rundstykker og croissants (forhåndsinnstill tiden for et optimalt resultat, +and -knapp kan ikke brukes).


- 3 Velg bruningsinnstilling

 Høy innstilling (for en mørk toast)  
 Lav innstiling (for en lys toast)  
 Medium innstilling

- 4 Trykk ned håndtaket på risteren.



- 5 Fjern brødet når det spretter opp og nyt måltidet!



☞ Sort skjerm: hvis apparatet ikke har vært i bruk på 5 minutter, vil apparatet gå i hvilemodus automatisk. Trykk på en knapp og apparatet vil bli reaktivert.


☞ Stoppknapp: for å stoppe risteprosessen når som helst

☞ Rundstykkevarmer: skyv håndtaket til rundstykkevarmeren ned for å opnå den.

# Snabbstartskort HD2618 - SVENSKA

- ! Innan du använder apparaten första gången rekommenderar vi att du låter apparaten genomföra några rostningscykler utan brödskivor på högsta rostinställningen i ett ordentligt vädrat rum. Det bränner bort allt damm som kan ha samlats på värmeelementen och förhindrar otrevliga lukter när du rostar bröd.

## 1 Sätt brödet i rosten



## 2 Välj en funktion

- Vanlig rostning
- Upptining och rostning
- Rostning på en sida  
(perfekt för baglar och baguetter)

- Återuppvärmning (ställ in tiden i förväg för att få bäst resultat. Du kan inte använda + och - knapparna.)
- Uppvärmning av bullar och croissanter (ställ in tiden i förväg för att få bäst resultat. Du kan inte använda + och - knapparna.)


## 3 Välj rostinställning

- Hög inställning (för mörkt bröd)
- Låg inställning (för ljust bröd)
- Mellaninställning

## 4 Tryck ner spaken



## 5 Ta bort brödet när det hoppar upp och njut av ditt mål!



☞ Svart skärm: om apparaten inte har använts på 5 minuter går den automatiskt in i viloläge. Tryck på vilken knapp som helst för att aktivera apparaten igen.


☞ Stoppknapp: för att när som helst avbryta rostningen.

☞ Värmegaller: tryck ner spaken för att fälla upp värmegallret.

# Pikaohje HD2618 - SUOMI

- ! Käytä laitetta muutama kerta tehokkaimmalla paahtoasetuksella ilman leipäviipaleita hyvin ilmastoidussa huoneessa ennen ensimmäistä varsinaista käyttökertaa. Tällä tavalla lämmityselementteihin mahdollisesti kertynyt pöly palaa pois eikä leipää paahdettaessa tule epämiellyttää hajua.

- 1 Laita leipä paahtimeen.



- 2 MODE  
2 Valitse toiminto.


Tavallinen paahto  
Sulatus ja paahto  
Yhden puolen paahto  
(sopii erityisesti  
bageleille ja patongeille)

Uudelleenlämmitys (parhaan tuloksen  
takaava kiinteä lämpötila-asetus,  
painikkeita + ja - ei voi käyttää)  
Sämpylöiden ja voisarvien lämmitys (parhaan  
tuloksen takaava kiinteä lämpötila-asetus,  
painikkeita + ja - ei voi käyttää)


- 3 Valitse paahtoaste.

+  
-  
RKorkea paahtoasetus (tumma paahtotulos)  
Matala paahtoasetus (vaalea paahtotulos)  
Keskiasento

- 4 Paina vipukytkin alas.



- Ota valmis  
paahtoleipä  
5 paahtimesta sen  
ponnahdettua ylös  
ja nauti!



Musta näyttö: jos laite on  
käytämättä 5 minuuttia, se siirtyy  
automaattisesti lepotilaan. Aktivoi  
leivänpaahdin painamalla mitä  
tahansa painiketta.


Pysäytyspainike: paahdon  
keskeyttäminen aina haluttaessa.

Lämmitysteline: Nosta teline  
painamalla lämmitystelineen vipu  
alas.

# Quick-Start HD2618 - DANSK

- ! Inden brødristeren tages i brug første gang, anbefales det at gennemføre risteprocessen et par gange ved højeste ristningsgrad - uden brød - et sted med god udluftning. Derved afbrændes eventuelle støvpartikler på varmelegemerne, som kan give en ubehagelig lugt, når der ristes brød.

- 1 Læg brødet i brødristeren.



- 2 Vælg en funktion.


MODE Almindelig ristning  
 Optøning og ristning  
 En-sides ristning  
(ideelt til bagles, baguetter og lignende)

Genopvarmning (indstil tiden for optimalt resultat ved hjælp af + og - tasterne)  
 Opvarmning af boller, croisanter og lignende (indstil tiden for optimalt resultat ved hjælp af + og - tasterne)


- 3 Vælg en ristningsgrad

Høj indstilling (til mørk toast)  
 Lav indstilling (til lys toast)  
 Medium indstilling

- 4 Tryk glidehåndtaget ned



- 5 Brødet er færdigt,  
når det springer op.  
Velbekomme!



☞ Sort skærm: Hvis brødristeren ikke har været brugt i 5 minutter, går den automatisk i sleep-mode. Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere brødristeren igen.


☞ Stop knap: Til manuel afbrydelse af den igangværende risteproces.

☞ Bollerist: Skub skydekontakten til bolleristen ned for at folde bolleristen ud.

# Συνοπτικές Οδηγίες HD2618 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

! Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να αφήσετε τη συσκευή να ολοκληρώσει μερικούς κύκλους ψησίματος, χωρίς φέτες ψωμιού, στην υψηλότερη ρύθμιση ψησίματος σε κανονικά αεριζόμενο δωμάτιο. Αυτό θα κάψει οποιαδήποτε σκόνη έχει συσσωρευτεί στα θερμαντικά στοιχεία και θα αποφευχθούν δυσάρεστες οσμές όταν ψήνετε ψωμί.

- 1 Βάλτε ψωμί στη φρυγανιέρα




- MODE  
2 Επιλέξτε μια λειτουργία

	Κανονικό ψήσιμο	αποτελέσματα, τα κουμπιά + και - δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν)
	Απόψυξη και ψήσιμο	
	Ψήσιμο από τη μια πλευρά (ιδανικό για ψωμάκια και μπαγκέτες)	Ζέσταμα σε ψωμάκια και κρουασάν (προρύθμιση χρόνου για καλύτερα αποτελέσματα, τα κουμπιά + και - δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν)
	Ξαναζέσταμα (προρύθμιση χρόνου για καλύτερα	


- 3 Επιλέξτε ρύθμιση ψησίματος

	Υψηλή ρύθμιση (για ξεροψημένο ψωμί)
	Χαμηλή ρύθμιση (για ελαφρά ψημένο ψωμί)
	Μεσαία ρύθμιση

- 4 Πιέστε το μοχλό ψησίματος προς τα κάτω



- 5 Βγάλτε το ψωμί μόλις πεταχτεί και απολαύστε το γεύμα σας!



☞ Κενή οθόνη: αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για 5 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.


☞ Κουμπί στοπ: για να σταματήσετε τη διαδικασία ψησίματος οποιαδήποτε στιγμή.

☞ Σχάρα ζεστάματος: πιέστε το μοχλό της σχάρας ζεστάματος προς τα κάτω για να ξεδιπλώσετε τη σχάρα.

# Kullanıma başlama kartı HD2618 - TÜRKÇE

- ! Cihazı kullanmaya başlamadan önce, cihazı birkaç defa içinde ekmek olmadan en yüksek ısıda çalıştırmanızı ve çalıştırıldığınız mekanı iyice havalandırmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede ısıtma birimleri içinde olabilecek tozları yakarak temzileyeceğ ve ekmek kızartma sırasında çıkacak nahoş kokuları önleyeceksiniz.

- 1 Ekmeği ekmek kızartma makinesine yerleştirin



- 2 Fonksiyon seçin



- Normak ekmek kızartma  
 Defrost ve ekmek kızartma  
 Bir taraflı ekmek kızartma  
(Bagel veya baget ekmek cinsleri için idealdir)


- Tekrar ısıtma (sure ayarı daha önceden ayarlanmış olup, + veya - düğmelerini kullanılamaz)  
 Yuvarlak ekmek ve kruvasan ısıtma (sure ayarı daha önceden ayarlanmış olup, + veya - düğmelerini kullanılamaz)

- 3 Kızartma ayarı seçimi




- Çok kızarmış ekmek ayarı  
 Az kızarmış ekmek ayarı  
 Orta kademe ayar

- 4 Ekmek kızartma kolunu aşağı bastırın



- 5 Ekmek yukarı fırladığında, ekmeği çıkarın. Afiyet olsun!




☞ Siyah ekran: Cihaz 5 dakika içinde kullanılmadığı takdirde, cihaz oto matik olarak uykuya moduna geçer. Herhangi bir düğmeye basarak bu fonksiyonu etkisiz hale getirerek cihazı çalıştırılabilirsiniz.

☞ Durdurma düğmesi: Ekmek kızartma işlemini durdurmak için heran düğmeye basabilirsiniz.

☞ Isıtma teli: Isıtma teli kalunu aşağıya bastırarak, teli açın.

قبل استعمال الجهاز لأول مرة، ننصحك بجعل الجهاز يكمل بضعة دورات تحميص بدون وضع شرائح خبز على أعلى درجة تحميص في غرفة ذات تهوية مناسبة. ذلك سوف يحرق كافة الغبار المجمع على العناصر الحرارية وسوف يتجنب تواجد الروائح الكريهة أثناء تحميص الخبز.



ضعى الخبز داخل  
الحماصة

- ﴿ اعادة تسخين (وقت مضبط مسبقاً)  
لأفضل النتائج، لا يمكن استعمال  
مفاطيح + و - )
- ﴿ تسخين اللفائف والكرافون (وقت  
مضبط مسبقاً لأفضل النتائج، لا  
يمكن استعمال مفاتيح + و - )

- ﴿ تحميص عادي  
تدوير وتحميص  
تحميص من جهة واحدة  
(مثال للباغلوب وخبز  
الباغيذ الفرنسي)

MODE


اختاري الوظيفة

- ﴿ درجة عالية (تحميص عالي)
- ﴿ درجة منخفضة (تحميص منخفض)
- ﴿ درجة متوسطة

+  
-


اختاري درجة  
التحميص

- ﴿ شاشة سوداء: إذا لم يتم استعمال  
الجهاز لمدة 5 دقائق، سوف يصبح  
الجهاز في وضع الاستعداد  
أوتوماتيكي. اضغط على أي  
مفتاح لإعادة تشغيل الجهاز.
- ﴿ مفتاح الليف: لايقف عملية  
التحميص في أي وقت.



اضغطي رافعة  
التحميص إلى  
الأسفل


- ﴿ رف التسخين: اضغط على رافعة رف  
التسخين إلى الأسفل لاخراج وطي  
رف التسخين.



أخرج قطعة  
الخبز عند قفزها  
من الجهاز وتلذذني  
بوجتك!

# کارت راهنمای شروع سریع - فارسی

قبل از استفاده از دستگاه بار اول، توصیه می شود که چند برش نان را بدون تنظیم دستگاه برای برشته کردن زیاد در اتاقی که دارای تهویه مناسب است، تست کنید. این عمل باعث سوختن گرد و غباری که ممکن است روی المنتهای دستگاه جمع شده باشد می گردد و از تولید بوهای نامطبوع عنکلم تست کردن نان جلوگیری به عمل می آورد.



۱ تکه نانی را در تست قرار دهید.

بهترین نتیجه، از دکمه های + و - نمی توان استفاده کرد  
صبحانه (زمان از پیش تعیین شده برای کسب بهترین نتیجه، از دکمه های + و - نمی توان استفاده کرد)

تست کردن عادی  
آب کردن یخ و تست کردن  
برشتہ کردن یک طرف (ایده آل برای بیگل و نان باگت)  
داغ کردن مجدد نان ساندویچی و نان پیش تعیین شده برای کسب

۲ عملکردی را انتخاب کنید

حالات:  
حالات زیاد (برای تست تیره)  
حالات کم (برای تست کم رنگ)  
حالات متوسط

۳ انتخاب حالت  
قهوة ایی کردن



صفحه سیاه: اگر از دستگاه برای بیش از ۵ دقیقه استفاده نشود، دستگاه بطور اتوماتیک وارد حالت خواب خواهد گردید. برای فعال کردن دوباره دستگاه کلیدی را فشار دهید.

دکمه توقف: برای متوقف کردن عملکرد برشته کردن در هر زمان.

طبقه گرم کردن: اهرم گرم کردن را به پایین فشار دهید تا طبقه گرم کردن باز شود.



۴ اهرم تست کردن را به پایین فشار دهید



۵ هنگامی که نان بیرون آمد آن را برداشته و از غذای خود لذت ببرید!